



سوال

(676) نذر تقدیر کو نہیں ٹال سکتی

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میری بیوی نے یہ نذر مانی تھی کہ جب اس کے بیٹے نے میٹرک کی سند حاصل کر لی تو وہ ہر ماہ چھ روزے رکھا کرے گی اس نے تقریباً ایک سال پہلے یہ سند حاصل کر لی اور اس نے اس تاریخ سے روزے رکھنے شروع کر دیے لیکن اب اسے اس نذر کی وجہ سے بہت ندامت اور دشواری کا سامنا ہے کیونکہ بچوں کی تربیت نگہریلو کام کاج اور خصوصاً موسم گرما میں اسے روزے رکھنے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا اس نذر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ ہمیشہ روزے رکھتی رہے یا اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے؟ یاد رہے اس نے نذر مانی تھی کہ وہ ساری زندگی ہر ماہ چھ روزے رکھے گی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس عورت کو اپنی نذر پوری کرنی چاہئے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ لَطِخَ اللَّهُ فَلْيَطِخْ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَغْصِبَهُ فَلَا يَغْصِبْ» (صحیح بخاری)

”جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانے تو اسے اطاعت کرنی چاہئے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی نذر مانے تو اسے اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہئے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے نذر کو پورا کرنے والوں کی تعریف میں فرمایا ہے:

وَفَوْنَ بِالَّذِينَ نَذَرُوا مَا فَوْنَ لَوْ مَا كَانَ شَرًّا مُسْتَقْبِرًا ۚ ... سورة الدہر

”یہ لوگ نذر میں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیل رہی ہوگی۔“

اگر اس عورت نے متواتر روزے رکھنے کی نیت نہیں کی تھی تو پھر الگ الگ روزے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس نے متواتر روزے رکھنے کی نیت کی تھی تو پھر اسے متواتر روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ اسے عظیم اجر و ثواب عطا فرمائے اور اسے بھی اور دیگر مسلمانوں کو بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ وہ نذر نہ مانا کریں کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:



« لا تذرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُلغِي مِنَ النَّذْرِ شَيْئًا، وَأَمَّا يَنْخِيلُ بِهِ مِنْ الْجَمَلِ » (صحیح مسلم)

”نذر نہ مانا کرو کیونکہ نذر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی ہاں البتہ اس کے ساتھ بخیل سے کچھ مال ضرور نکال لیا جاتا ہے۔“

حدیث ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 541

حدیث فتویٰ